

SULFUR TETRAFLUORIDE	سلف فلورائید		ICSC: 1456
CAS # 7783-60-0 RTECS # WT4800000 UN # 2418 EC # EINECS# 232-013-4 UN Hazard class: 2.3			دیگر نام: Tetrafluorosulfurane فارمولہ: F F ₄ S سامانی وزن: 108.06
ابتدائی طبی امداد اور آگ پر قابو پانہ	بچاؤ	شدید خطرات \ علامات	خطے کی قسم
پانی بالکل نہیں آگ کے قرب و جوار میں پھیلنے کی صورت میں مناسب اقسام کے بھجنے والے مادے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔		بلنے پر سوچ پیدا کرنے والے یا زبردیلے بھارات (یا لگیں) غارج ہوتے میں۔ غیر آش گیر مادہ	آگ:
آگ لگنے کی صورت میں، سلنڈر کو پانی کا پھر کاو کر کے ٹھنڈا رکھیں، لیکن پانی کو مادے ملانے سے بچائیں			دھاکہ:
چھونے سے بختی سے پہ بیز کریں			جسم میں داغہ:
. تازہ ہوا میں لے جائیں، آرام دلائیں ٹیک لگا کر لایاں ضرورت پر نہ پر صنوعی تنفس فراہم کریں طبی بندگاشت کا انتظام کریں	. ہوا کی آمد و رفت، لوکل ایگزاست یا آلات تنفس کا انتظام کریں	بلن کھانی گلے کی خرابی سرد متعلقی تھے آنا سانس کی خرابی سانس لینے میں مشکل علامات دیر بعد ظاہر ہو سکتی میں (نوٹ دیکھیں)	سانس کے راستے:
کی صورت میں: کافی مقدار میں Frostbite پانی اور بہائیں کپڑے نہ تاریں بلد پر وافر مقدار میں پانی بہائیں یا شاور کے نیچے لے جائیں۔ طبی بندگاشت کا بندوبست کریں	ٹھنڈک سے بچاؤ کے دستاںے استعمال کریں خفاظتی لباس استعمال کریں	بلن کا احساس سرخی بلد پر بلنے کے زخم Frostbite. (مزید معلومات سانس کے ذریعے داغہ کے اندر دیکھیں)	جلد کے راستے:
پہلے کئی منٹ تک پانی سے اپھی طرح دھوئیں پھر ڈاٹر کے پاس لے جائیں۔	خفاٹی لوگ اسٹھان کریں پھرے کی شیڈ استعمال کریں	سرخی، درد، دھنیل اصوات شدید گرے زخم .. (مزید معلومات سانس کے ذریعے داغہ کے اندر دیکھیں)	اسکھوں میں پرنا:
لگنے کی صورت میں:	کام کے دوران خود دونوش اور سکبٹ نوشی مت کریں		
پیک کرنا اور لیبل اگانا:		بچھنے کی صورت میں اقدامات:	
		خطہ کا علاقہ فوراً غالی کر دیں کسی ماہر سے مشورہ کریں ہوا کی آمد و رفت کا انتظام کریں (غیر معمولی ذاتی تحفظ کی ضرورت اور کیمیائی تحفظ کا گیں سے محفوظ لباس اور خود کار آئیں تنفس استعمال کریں)۔	
ذخیرہ کرنا:		ہنگامی اقدامات:	
ہوا دار کمرے میں رکھیں۔ عمارت کے اندر ہو تو غیر آٹھی چمک پر رکھیں کے اندر رکھیں سرد خشک		Transport Emergency Card: TEC (R)-[20G2TC] NFPA Code: H[3]; F[0]; R[]	
اتم معلومات پشت پر ملاحظہ فرمائیں			

SULFUR TETRAFLUORIDE	سلف تری فلورائیڈ	ICSC: 1456
اہم معلومات		
<p>بجم میں داغنے کے راستے: یہ مادہ بہم میں سانس کے ذریعے چند بہت سکتا ہے سانس کے راستے داغنے کے اثرات: اخراج ہونے کی صورت میں ہوا میں اس گیس کی مقدار فو راطرے کی حد تک پہنچ جائے گی</p> <p>مختصر مدت کے لیے جنم میں داغنے کے اثرات: آنکھوں میں جلد پر اور سانس کی نالی میں شدید زخم کا اندازہ ہے۔ سیال سے Frostbite کی وجہ سے عضو مارا جاسکتا ہے۔ اس کے سانس کے ذریعے اندر جانے پر پھینپھڑوں میں پانی بھر سکتا ہے (نوٹ دیکھیں)۔</p> <p>طویل مدت کے لیے جنم میں داغنے کے اثرات: یہ مادہ بڈیوں اور دانتوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے جو بڈیوں کی خرابی پر پہنچ جو سکتا ہے</p>	<p>طبیعی حالت: ہے رنگ لگیں مخصوص بوكے ساتھ طبیعی خواص: گیس ہوا سے بھاری ہے۔</p> <p>کیمیائی خواص: یہ پانی کے ساتھ مدت سے عمل کرتا ہے زبریلے اور گلادینے والے بھارت بناتا ہے شیشے اور دھات کو نقصان پہنچاتا ہے</p> <p>ہوا میں مقررہ حدود: رو ہی معینہ مقداریں (TLV: (Ceiling value) 0.1 ppm (ACGIH 2003</p>	
طبیعی خواص		
	<p>نقطرہ جوٹ: [40] سنٹی گریڈ</p> <p>نقطرہ پھرلاو: [124] سنٹی گریڈ</p> <p>پانی میں عمل پذیری (گرام فی 100 ملی لٹر): عمل کرتا ہے</p> <p>بھارت کی کثافت اضافی: 3.78</p>	
ماخوذیات اعداد و شمار		
نوٹس (Notes)		
<p>پھینپھڑوں میں پانی بھرنے کے آثار کی کھٹکے بعد ظاہر ہوتے میں لہذا مکمل آرام اور طبیعی گردانہ ضروری ہے</p>		
مزید معلومات:		
LEGAL NOTICE	Neither the CEC nor the IPCS nor any person acting on behalf of the CEC or the IPCS is responsible for the use which might be made of this information.	
© IPCS, CEC 1999		
IPCS International Programme on Chemical Safety	    	Prepared in the context of cooperation between the International Programme on Chemical Safety and the Commission of the European Communities C IPCS, CEC 1999